

سونیری فنان کرنسی پروڈکٹس کیلئے حقائق پر مبنی اہم بیان (01 جنوری 2026 سے مؤثر)

۱۴: اگر آپ نیا کالونز کھانے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستبند کو غور کریں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے جینٹلمن کے ذریعے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستبند کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کرنے کے لئے دوسرے جینٹلمن کے کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔

کھانسی کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

سب سے معمولات مدم کوراجہ کی طرف اترتے ہیں۔ خمد مات، نفس اور مست افرات ششہائی پیامہ پر تبدل مل کے جاسکتے ہیں۔ ہماری معیاری نفس / چہا جبڑے لئے، آپ ہماری ویب سائٹ ہماری رائج ذلت کر سکتے ہیں۔

تفصیلات		کرنٹ		سیونگرز	
		فنانن کرنسی	سونیری فاریکس پلس NRP	فنانن کرنسی	سونیری فاریکس پلس NRP
کرنسی		ڈالر، یورو، پاؤنڈ	ڈالر، یورو، پاؤنڈ	ڈالر، یورو، پاؤنڈ	ڈالر، یورو، پاؤنڈ
اکاؤنٹ کے لئے کم سے کم بیلنس	کھلوانے کیلئے	ڈالر 100، یورو، پاؤنڈ	0	ڈالر 100، یورو، پاؤنڈ	0
	برقرار رکھنے کیلئے	ڈالر 100، یورو، پاؤنڈ	0	متعلقہ علاقہ نہیں	0
اکاؤنٹ کی منٹیننس فیس		مساوی 500 روپے (بشمول ایف ای ڈی)	0	متعلقہ علاقہ نہیں	0
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاتا ہے (متعلقہ علاقہ ٹیکس کی شرح سے مشروط ہے)		متعلقہ علاقہ نہیں	متعلقہ علاقہ نہیں	ہاں	
منافع بخش اشارے				پابندی والے سیونگرز: بیلنس 2,000 سے کم ہونے پر کسی بھی ریٹ کا علاقہ ٹیکس ہوگا۔	
منافع کی ادائیگی کی تعداد				ڈالر 0.10% - 0.05% پاؤنڈ 0.05%	
مثلاً (ڈالر، پاؤنڈ، یورو 1000 سے آپ متعین کردہ مدت میں ڈالر، پاؤنڈ، یورو..... کاسکتے ہیں)				متعلقہ علاقہ نہیں	
				متعلقہ علاقہ نہیں	
				ماہانہ	
				مشہدائی	
				ڈالر - 0.5 / 0.25% پاؤنڈ - 0.25%	
				پاؤنڈ، یورو	
				ڈالر	
				سیلیبس	
				Upto 4,999.99	
				5,000 to 9,999.9	
				10,000 to 24,999.9	
				25,000 to 99,999.9	
				100,000 & Above	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	
				0.83/-	
				0.42/-	
				0.58/-	
				0.67/-	
				0.75/-	

نوٹ: منافع کا حساب اکاؤنٹ کے ماہانہ اوسط بیلنس پر مبنی ہوگا، اور منافع کی ادائیگی کے لیے درجے کی شناخت کے لیے، وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔



Soneri Bank

سروس چار جہز				
اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چار جہز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چار جہز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com دیکھ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ تمام بینک چار جہز متبادل اصطلاحات کے علاوہ ہیں۔				
سروسز	اقام	کرنٹ		سیونگر
		سوناہری فاریکس پلس NRP	سوناہری فاریکس پلس NRP	سوناہری فاریکس پلس NRP
تقدیم دین	انٹرنیشنل	0		
	نیشنل	0		
ایس ایم ایس آرٹس	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کلیئرنگ	1.75 امریکی ڈالر ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی وائی تمام کاروباری اور اداروں کے اکاؤنٹس بشمول سول۔ ملکیت 0.80 ڈالر ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی وائی دیگر ٹرانزیکشنز کے لئے		
	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کلیئرنگ	1.75 امریکی ڈالر ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی وائی تمام کاروباری اور اداروں کے اکاؤنٹس بشمول سول۔ ملکیت 0.80 ڈالر ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی وائی دیگر ٹرانزیکشنز کے لئے		
چیک بک	احبراء	مفت	مفت	مفت
	اسٹاپ پیمنٹ	مفت	مفت	مفت
چیک بک	چیک بک کی تلقی کے چار جہز (اگر 45 دن کے اندر وصول نہ کی جائے)	تمام نان ریمو نیو کرنٹ اکاؤنٹس کے لیے فی چیک 12 روپے (فی لیف)		
	چیک بک کی تلقی کے چار جہز (اگر 45 دن کے اندر وصول نہ کی جائے)	تمام نان ریمو نیو کرنٹ اکاؤنٹس کے لیے فی چیک 12 روپے (فی لیف)		
ترسیلات زر (خیر ملکی)	فنانس ڈیسک ڈرافٹ	20 ڈالر یا مساوی بج سوئفٹ چار جہز		
	وائٹ رائٹر	45 ڈالر یا مساوی بج سوئفٹ چار جہز	مفت ترسیلات (1 ماہانہ)*	45 ڈالر یا مساوی بج سوئفٹ چار جہز
روپی اکاؤنٹ کیلئے FTT/FDD کے اجراء کے سروس چار جہز	0.10% کم از کم - 1,000 روپے	0.10% کم از کم - 1,000 روپے	0.10% کم از کم - 1,000 روپے	0.10% کم از کم - 1,000 روپے
ڈپلیٹ منسٹریل کاپی	ڈپلیٹ منسٹریل کاپی	35/- روپے یا دیگر کرنسی میں مساوی (بشمول FED) ہر 6 ماہ کیلئے اضافی - 35/- روپے یا دیگر کرنسی میں مساوی ہر 6 ماہ کیلئے وصول کیا جائے گا		
	ای ای سیٹمنٹ	مفت		
فنانس ڈرافٹ	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / چیسٹ	0		
	آئی بی ایف سی	متبادل اصطلاحات نہیں		
ڈیجیٹل بینک	فون / موبائل / انٹرنیٹ بینکنگ سبکچن (ایک دفعہ اور سالانہ)	0		
	نارسل	6 ڈالر فی ٹرانزیکشن علاوہ کوئی چارجز (دیگر کرنسیوں کیلئے SOC کے مطابق چارجز لاگو ہوں گے)		
اکاؤنٹ کی بندش	سکری کی درخواست	0		
	سکری کی درخواست	0		



Soneri Bank

لازمی معلوم ہونا چاہیے

غیر دعویٰ شدہ فنانس: بینکنگ کمپنیز (ترمیمی) ایکٹ، 2024 کے سیکشن 31 کے تحت، وہ تمام فنانس جو گزشتہ 15 سال کے عرصے سے غیر فعال رہے ہیں، ماسوائے کسی مبالغہ یا حاکمیتی یا کسی عدالتی نام پر فنانس، قانونی امور کی اخیام دی کے بعد متعلقہ بینکوں کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔ حوالہ شدہ فنانس متعلقہ بینکوں کے ذریعے کلیم کئے جاسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی اپنی متعلقہ برانچ سے رجوع کریں۔

اس اکاؤنٹ کی بندش: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لئے دستخط شدہ اکاؤنٹ بندش کی درخواست جمع غیر استعمال شدہ چیک بک اور ڈیٹ کارڈ (اگر کوئی ہو) اپنی متعلقہ برانچ میں جمع کروائیں۔

آپ کے آجبر کو استغنیٰ دینے یا چھوڑنے کی صورت میں آپ کی کتنی کو آپ کے استغنیٰ کے بارے میں متعلقہ برانچ منیجر / ریلیشن شپ منیجر کو مطلع کرنا ہوگا۔ ریلیشن شپ حباری رکھنے کیلئے برانچ کا متعلقہ شخص پروڈکٹ کینگری کو عام کرنٹ اکاؤنٹ یا PLS سیونگز اکاؤنٹ، جو بھی صورت ہو، میں تبدیل کرے گا۔

اگر آپ نے SNBL سے کوئی فنڈنگ حاصل کی ہے، تو اس کا تصفیہ آپ کے حبانے سے پہلے ہونا چاہیے۔ تاہم، اگر کوئی استثنیٰ ہے، تو اسے ضروری منظوری کیلئے ECC کو بھیجا جائے گا۔

آپ کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں یا شکایت کر سکتے ہیں؟

برائے رابطہ: سونی ری بینک لمیٹڈ، کیلیڈن ٹینمنٹ پونٹ، کسٹمر ایکسپریس ڈیپارٹمنٹ، پیمسلی منزل، الریم ٹاور، آئی آئی چند ریگر روڈ، کراچی۔

میل فون نمبر: 021111567890 / ایکسٹینشن: 2962 اور 2548

کانٹیکٹ سینٹر: 021-111- SONERI (766374)

ای میل: complaint.suggestion@soneribank.com

ویب سائٹ: www.soneribank.com

اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو، آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

کراچی سیکریٹریٹ، بینکنگ محتب پاکستان سیکریٹریٹ

پانچویں منزل، سٹین پبلکس، ایم آر کینی روڈ، کراچی

میل فون نمبر: +9221-99217334

فیکس: +9221-99217375

ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk

اکاؤنٹ کھولنے کی شرائط: ”ملازمین“ کے طور پر درجہ بند تمام افراد سونی ری ایسپ لائی بینکنگ کے انتخاب کے اہل ہوں گے۔ صارف کی درخواست پر مشترکہ اکاؤنٹ بھی کھولا جاسکتا ہے۔

اکاؤنٹ کھولنے کیلئے درکار اشیاء: اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو ریگولیٹری ہدایات اور بینک کی داخلہ پالیسی کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لئے دستاویزات اور معلومات کی فراہمی شامل ہو سکتی ہے۔ وقت فوقتاً ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ براہ مہربانی مزید تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔

چیک باؤنس: بے ایمانی سے چیک کا اجراء پاکستان بینک کوڈ کی دفعہ 489F کے مطابق مجبرمان غفلت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چیک لکھنا چاہئے۔

سیف کڑی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی کے ٹولز کی محفوظ تحویل جیسے ڈیٹ کارڈز، پین کوڈز، چیکس، ای بیٹنگک یوزر نیمز، پاس ورڈز، دیگر ذاتی معلومات، وغیرہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے سیکوریٹی خطرات کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کیلئے سونی ری بینک کی جانب سے آپ کو کبھی بھی کال نہیں کی جائے گی۔

ریکارڈ اپڈیشن: کسی بھی اہم مواصلات کی محرومی سے بچنے کے لئے ہمیشہ بینک کے پاس موجود پروفنٹل / ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کے لئے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 ماہ تک غیر فعال رہتا ہے (یعنی کوئی ڈیٹ یا کریڈٹ ٹرانزیکشن یا ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے لاگ ان نہیں) تو اسے غیر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے، تو آپ کو کسی بھی ڈیٹ ٹرانزیکشن / واپسی کی اجازت نہیں جائے گی۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کیلئے، آپ کو بینک کے ریکارڈ میں رجسٹرڈ ذرائع / چینلز اور تمام قابل اطلاق بینک کی ضروریات کو پورا کرنے کے ذریعے بینک کو باقاعدہ طور پر پھرتی ہوئی اور دستخط شدہ درخواست جمع کرنا ہوگی۔ پنشن اکاؤنٹ کے معاملے میں، اگر آپ ہر چھ ماہ کے بعد بائیو میٹرک تصدیق یا لائف سرفیکٹ فرام کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا لگاتار چھ ماہ تک پنشن کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا پنشن اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ فیملی پنشنر (بیوہ/بیٹی/بھتیجہ) کے معاملے میں، اگر آپ ہر سال 30 ستمبر کو اس سے پہلے غیر شادی شدہ اعلیٰ معیار کے نام میں ناکام رہتے ہیں تو، آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔

میں مختلف پرمسٹی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں

تاریخ

مستخرج نام:

پروڈکٹ: سونی ری فنانس کرنسی پروڈکٹس

پتہ:

موبائل نمبر:

مستخرج کے دستخط: